



سوال

(632) تمباکو نوشی کی مجلس کو ترک کر دینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ! میں مسجد میں باجماعتنا زاد کرنے کا اہتمام کرتا ہوں، میں نے اپنے گھر کو وی سی آر سے پاک کر دیا اور ونڈلو فلموں کو جلا دیا ہے، نیز اپنے پاس موجود تصویروں کو بھی جلا دیا ہے، گانوں کی کیسٹوں کو میں نے اسلامی کیسٹوں میں تبدیل کر دیا ہے، میں نے دائرہ بھی رکھ لی ہے اور سنت نبوی کی اتباع میں کپڑوں کو بھی چھوٹا کر لیا ہے۔ البتہ ابھی تک ایک چیز باقی ہے جو میری زندگی کو مکدر کیے ہوئے ہے اور وہ ہے تمباکو نوشی، میں نے اسے بھی ترک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ اسے ترک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے نصیحت فرمائیں، امید ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں گے کہ وہ مجھے اس سے بچالے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے آپ کو حق کی ہدایت فرمائی اور اسے اختیار کرنے کے لیے اس نے آپ کی اعانت فرمائی، جس کی وجہ سے آپ نے مخالفت حق کاموں کو ترک کر دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر ثابت قدمی اور دین میں فتاہت عطا فرمائے۔

جہاں تک تمباکو نوشی کا تعلق ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اسے بھی ترک کر کے اس سے اجتناب کریں کیونکہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں اور جب آپ صدق دل سے اسے ترک کرنا چاہیں گے اور تمباکو نوشی کی مجلسوں کو بھی چھوڑ دیں گے تو اسے ترک کرنے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرمائے گا۔ ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں کہ آپ عزم صادق اور اپنی قوت ارادی کو کام میں لائیں اور اپنے سجدوں میں اور دیگر اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ وہ اسے ترک کر دینے کے سلسلے میں آپ کی مدد فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمباکو نوشی کو صحبت کو بھی ترک کر دیں۔ اس سے آپ کو خیر و بھلائی حاصل ہوگی اور انجام بھریقیناً بھجا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

ادعونی أستجب لکم ... ۶۰ ... سورۃ المؤمن

”تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔“

اور فرمایا :



وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ ... سورة الطلاق

”اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔“

اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، تمہا کو نوشی ترک کرنے کے سلسلہ میں آپ کی مدد فرمائے اور حق پر آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔

حذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 479

محدث فتویٰ